

## اسلامی دستور کا مطالبہ

اس کا علاج بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ جس طرح ۳۸-۳۹ء میں نظامِ اسلامی کے لیے ایک پاکستان گیر مطالبہ پوری قوت کے ساتھ اٹھا تھا اور اسی کی بدولت یہ لوگ قرارداد مقاصد پاس کرنے پر مجبور ہوئے تھے، اسی طرح اب پھر تمام ملک سے دستورِ جدید کے لیے ایک متفقہ مطالبہ اٹھے..... پھر مطالبہ صرف یہی نہ ہونا چاہیے کہ ملک کا نیا دستور بنایا جائے، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں حسب ذیل امور کی قطعی صراحة ہو:

- ۱- ملک کا قانون اسلامی شریعت ہوگی۔
  - ۲- کوئی ایسی قانون سازی نہ کی جاسکے گی جو شریعت کے احکام یا اصولوں کے خلاف ہو۔
  - ۳- تمام ایسے قوانین کو منسوخ کیا جائے گا (خواہ بذریعہ ہی سہی) جو شریعت کے احکام اور اصولوں سے متصادم ہوتے ہوں۔
  - ۴- حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ اُن برائیوں کو مٹائے جنہیں اسلام مٹانا چاہتا ہے، اور ان بھلانیوں کو فروغ دے جنہیں اسلام فروغ دینا چاہتا ہے۔
  - ۵- لوگوں کے شہری حقوق (تحفظِ جان و مال و آبرو، آزادی تحریر و تقریر، آزادی اجتماع اور آزادی نقل و حرکت) کو اُن کا جرم کھلی عدالت میں ثابت کیے بغیر، اور انھیں صفائی کا موقع دیے بغیر سلب نہ کیا جاسکے گا۔
  - ۶- لوگوں کو حق ہوگا کہ انتظامی یا مقتنه اگر اپنے حدود سے تجاوز کرے تو وہ ملک کی عدالتوں سے چارہ جوئی کر سکیں۔
  - ۷- عدلیہ انتظامی حکومت کی مداخلت سے آزاد ہوگی۔
  - ۸- حکومت اس بات کی ضامن ہوگی کہ ملک میں کوئی شخص بنیادی ضروریاتِ زندگی (غذا، لباس، مکان، علاج اور تعلیم) سے محروم نہ رہے۔
- ان امور کی صراحة کے بغیر اگر کوئی دستور بنائی گئی دیا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اہل ملک کے کسی کام کا نہ ہوگا۔ (اشارةات، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ترجمان القرآن، جلد ۳۸، عدداً ۲-۱، رب جمادی، شعبان ۱۴۲۷ھ، اپریل، ۱۹۵۲ء، ص ۷)